




محمد داؤد

**محسن صاحب** ایک مدت کے بعد امریکہ سے لوٹے اور اپنے تمام ہی عزیز واقارب دوست احباب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے ساتھ ساتھ حسرتوں کو بھی جھٹکنا تھا۔ کسی نواز ایسا ہے ایک میر عزیز کو کھنڈہ سرسوت چیل نہیں کیا، اس خواہش کا اظہار بڑی احتیاط کے ساتھ ضرور کیا کہ میں آپ کو ایک عمدہ شیریروانی پیش کروں۔ لکی میری ایک دیرینہ خواہش ہے۔ آپ کی عنایت ہوئی گا میری اس چیلنگ کو قبول کریں۔

محبوب صاحب نے کہا: چلئے، چلو، جہاں آپ کے چیل بہا احسانات ہیں، وہاں ایک ہی پوزیشن۔

محسن صاحب نے پورا اور سلائی کی ایک خاصی بڑی رقم اپنے ایک دیرینہ دوست کو منج دی۔ اس بلاغت کے ساتھ کہ آپ اپنی خصوصی اور ذاتی توجہ سے پورا ایک ایسے ٹیلر ماسٹر کو دین جو شیریروانی میں یکساںے روزگار ہو۔۔۔ سلائی کی اجرت آگم گے۔ یہی وہی کچھ کھوڑا یا نکل کر۔ میں ان شاء اللہ جلد ہی معلوم رقم روانہ کروں گا۔ شیریروانی عید سے کافی پہلے تیار کرواؤں۔ یہ خیال ہے۔

شیریروانی کا پورا لبریریڈیشن میں شہزادہ کو برزیشن ٹیلر ماسٹر کو دے



**مقبول شاعر مشہور غزل**

سلامت رہیں دل میں گھر کرنے والے  
 اس اجڑے مکاں میں بسر کرنے والے  
 گلے پر چھری کیوں نہیں پھیر دیتے  
 اندھیرے اجالے نہیں تو ملیں گے  
 وطن سے ہمیں در بدر کرنے والے  
 گریباں میں منڈ ڈال کر خود تو دکھیں  
 برائی پہ میری نظر کرنے والے  
 اس آئینہ خانے میں کیا سر اٹھاتے  
 حقیقت پر اپنی نظر کرنے والے  
 بہار دو روزہ سے دل کیا بہلتا  
 خبر کر چکے تھے خبر کرنے والے  
 کھڑے ہیں دو دروازے پہ در و درم کے  
 تری جتھو میں سفر کرنے والے  
 سر شام گل ہو گئی شمع پائیں  
 سلامت ہیں اب تک سحر کرنے والے  
 کیا صحن عالم کیا کینج مرقد  
 بسر کر رہے ہیں بسر کرنے والے  
 یکلند وہی فاتح کھنڈے ہیں  
 دل و تنگ و آہن میں گھر کرنے والے



رشید پروین سوویو

**ماں بھت دیر تک اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے رہی۔ محبوب صاحب سے وہ بڑی مشکل سے کہہ سکی، 'بیٹہ جائیے۔' اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ بیٹے کے کبھی سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور کبھی شیریروانی پر۔**



**شیریروانی**

ٹیلر ماسٹر کو دست زدے کہ محبوب صاحب خود ہی چلے اور جب شیریروانی پہن کر کھینچی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شیریروانی چھوٹی ہی تھی، خاصی چھوٹی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی اور شخص کے سائز کی تیار ہوئی ہے۔ شیریروانی کو کھینچ کر اس صورت میں پہنایا کہ کچھ کھال نہیں ہوا۔ ٹیلر ماسٹر نے دوست اور خود محبوب صاحب کو خوش و خاش و خج پر لگے۔ یہ آخر کیا ہوا؟ ایسا تجربہ ٹیلر ماسٹر اور شیریروانی بڑی ہی نای۔ اللہ! اللہ! ٹیلر ماسٹر نے ٹیلر صاحب سے رکھ لی تین دنوں کے دوست ذکر کے اور پھر ایک دن محبوب صاحب کے یہاں ڈال گئے۔ بعد ایک دن محبوب صاحب نے ٹیلر صاحب سے کہا، چلو، جو ہوسو ہوا آپ ہمارے بیٹے ہونے پڑے میں ستیا کی ہوئی ہی دیں۔

ٹیلر صاحب اپنی سوٹ سے اٹھے اور فقیہ سر پر گھما کر سائز لے لیا اور ایک دو دن کے بعد لوٹی ہی دی۔

اب اس کو سونے ادا کیا تو دیکھتے تو کیا کیسے ٹیوٹی ٹیوٹی اور آواز چھوٹی تھی۔ ماسٹر صاحب کی دکان پر سب ہی منگ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ نئے شیریروانی سائز کی اس اور بڑی ہی۔۔۔ نئے خدائی ملانہ نہ دواں۔ تم باہل خود سائز تو بھی آکر شیریروانی کے ساتھ رکھی۔ کیا نہیں کس سے کہیں وقت اتنا تھا کہ دوسری شیریروانی سل سکے اور ماسٹر صاحب نے بھی نکالیں چھیری تھیں۔ ان کو بڑی مزوں ملی تھی۔ ماسٹر صاحب کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تیرماں سے نکل چکا تھا محسن صاحب کو البتہ ان کے دوست ہی نہیں محبوب صاحب نے بھی مطلع کر دیا۔ کچھ کوئی کچھ کوئی۔

حافظ اہلی اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا ماں! میرا حفظ پورا ہو گیا ہے۔

افسانہ

ٹیلر ماسٹر صاحب نے محبوب صاحب کو پورا پورا اہلیا اور پورا پورا کٹ اپنی ٹپ ٹپ میں نوٹ کر کے چلے گئے۔ چند دن کے بعد یہ خوش خبری دی، 'شیریروانی تیار ہے آ کر لیجئے اور بتائیں، آپ آتے ہیں کہ کم لے کر آئیں؟' پھاہٹا جا سکے۔

**پیسرومرشد**

**'نہیں نہیں جانا ضروری ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مال زیادہ تھا یا کم۔' میں نے عمہ صاب کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر کھا اور دوسرے دکانداروں کے ساتھ فوراً ہی پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ میرے ساتھ اور بھی کچھ دکاندار تھے۔**

کافد اور بال جان نکال کر کھنا شروع کیا۔ میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک جوان سال دکاندار نے عمر کو پچھنے کے رکھنا شروع کیا۔ ہلدی وہی ہوئی۔۔۔

عمہ نے کچھ بھنے کے لیے زبان کھولنا ہی چاہی تھی کہ میں نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میری عمر چھ، کھانو ایک بوری اور اس طرح سے میرے اس جوان سال دکاندار نے بڑی محبت اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے چوری کے مال کی تفصیل کچھ زیادہ ہی لکھائی جو حقیقت نہیں تھی۔ اب ہٹی جی نے اپنا سر اٹھا کر کہا کہ کیا نوکریک آنے کا اشارہ کیا نہیں پڑا۔ پھر بیٹھے ہی کہا، یہ بیٹھے ہیں۔۔۔ نہیں سمجھتے کہ جی کی بولنا ہے۔ یہ تفصیل درست نہیں۔ عمہ صاب نے، بڑے بڑے پارسا ہوئے۔۔۔ روٹیل ہوئیں اب اتنے بڑے روٹیل بھی تو نہیں کہ چوروں کو چوری سے ہی روک دو تمہارے مال کی تفصیل میں نے

**3 غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

میں ایک بڑی سمجھش ہوئی حجاب نامھی رہا ہوں۔ حفظ کے بعد میری یہ پہلی عید ہوئی۔۔۔ ماں، میں پھر ایک بہت کبھی شیریروانی پہننا چاہتا ہوں۔۔۔ ماں ہمیری یہ خواہش پوری کرے۔

مجھے پچھتے پچھتے یاد آئی کہ، ماں کا تقاضا اور مزہ دینی جاری تھی اور کبھی کبھی وہ آنسوؤں کو پیتے ہوئے معصومی نشے سے اہل کو ذرا صدف دیتی، 'بیٹے تیرا پورا ہوتا تو تیری یہ خدمت شاید پوری ہو جاتی یا تیری یہ خدمت کوئی چھوٹی موٹی ہوتی ہے میں پوری کر سکتی۔۔۔ جانا، یہ تو پہلا ہے جو سے تیرا ماں ہے۔

کہاں ہم اور کہاں شیریروانی۔۔۔ بیٹا، تو مجھ سے لکھی خدمت کیا کر نہ جائے اس طرح دودھ کھانا دودھ کھی تو پھر کھی اور کھی رہا ہے اور اس پر تو شیریروانی کی رت لگا رہا ہے۔۔۔ ذرا سوچ تو کیا کہا کہ ماں ہے۔

اہل ماں کے ڈال پر نہیں کھینچتا تیری کبھی ماں۔ میں شیریروانی ضرور پہنوں گا تم ذرا کی کوشش کرو۔

آج محبوب صاحب نے سوچا، کیوں دن آج تو رونے شروع ہوئی والی سمجھش میں پڑی ہے۔ وہاں جھوٹا بیٹا بیٹا بیٹا کی طرح ہے۔ ماں نے مجھ سے کئی بار تقاضا بھی کر چکا ہے، پچھتاہے کہ حفظ کھل کر لیا اور سمجھش میں شروع ہوئی ہے۔ یہ میری باہل کھلی حجاب ہے۔ آپ آئیں لکھتے دیکھتے ہر تھکا لگتا۔

سمجھش کوئی دوسری لیکن محبوب صاحب وہاں ہوتے پہنچ گئے۔ نماز کے بعد اہل سے وہاں تو رونے چھوٹی۔ بہت سہیمان سے صاف سترے انداز میں قرآن کریم پڑھا۔ تو رونے کے بعد محبوب صاحب نے اہل سے کہنے سے کہا، لکھو، خاص اہل کو چلو، میرے ساتھ آئی گھر چلو۔۔۔ میں ہاں تم کو ایک خاص اہل اور وہاں گا۔ نماز کے بعد محبوب صاحب لکھ گئے اور اپنے کمرے میں لے جا کر اپنا پچھتے شیریروانی نکال کر کہا، وہاں پہننا دیکھا۔ یہ تہجد اہل خاص۔۔۔ پرسوں کو عید سے نہیں پہننا کر عید گاہ جانا ہے۔

اہل نے شیریروانی پہنی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شیریروانی کمال رہے کی فٹ آئی۔ ٹیوٹی اڑھائی۔ وہ بھی باہل کھلی محبوب صاحب کا کمال بھرا ہے، اللہ تو نے اس طرح اس شیریروانی کو کھینچنا عطا فرمایا۔

محبوب صاحب نے کہا، بیٹے، اسے اتار دینا۔۔۔ چلو تمہاری ماں کے پاس چلئے تیرا لیے یہ پہننے بیٹھنا۔

ماں اپنے کمرے میں بیٹے کا بوری ہے تہا ہی سے انتظار کر رہی تھی تو رونے کے بعد اہل لکھ گئے میں آج خاصی پڑھو گی۔ مجھے یہ بیٹا ماں کے پاس پہننا، اس سے پہلے کہا، لو، ماں، یہ دیکھو۔۔۔ میری شیریروانی۔ چلی، محبوب صاحب نے پہننا ہے قرآن کا اہل دیا ہے۔

ماں نے دوست ایک بیٹے کے لگے سے کہے رہی محبوب صاحب سے وہ بڑی مشکل سے کہہ سکتا، بیٹھ جائے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور شیریروانی پر۔

یہ لکھی ہے جو چوری ہوا ہے۔ کہیں غلط ہو تو کوک دینا۔ فٹنی شروع ہونے لگا ہاتھ میں رکھو۔۔۔

عمہ صاب نے قرآن میں سر ملایا۔

ہلدی آؤ گی اور میری جگہ خمد پندرہ گلو، جانے تم نے ہم آدھ آدھ پوری تک ایک بوری کانا میں ہے چھوڑنے نہ ہیں پھوڑو، دی، ہاں تم کلو، کوشش پانچ کلو۔ اور عمہ صاب خاموش سر ملاتا گیا۔ ہم بھی حیران اور حیرت کرنا کی تفصیل معلوم ہوتی ہے؟

میں نے درست لکھا ہے یا نہیں؟ آخر فٹنی جی نے عمہ صاب کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جناب یہ باہل کھلی اور درست تفصیل ہے۔ عمہ صاب کے لیے میں تیرا اور جس کے ملے چلے تاثرات صاف جھگڑا ہے تھے۔

ٹھیک ہے۔ تحقیقات ہوگی۔ اور کہیں سے چور پکڑا گیا تو مال واپس لیا جائے گا۔

سب واپس جانے کے لیے مزے سے جھگڑے رہا نہیں کیا، پوچھ رہی تھی، بیٹھا، جناب عالی آپ کی تفصیل کچھ معلوم ہوئی؟ میں حیران ہوں۔ نہیں میں ہم سے بڑے پھر خمد ہیں سچا جان اللہ۔ ہمارے عقیدت مند پہننے میں ہی اپنا حال احوال اتنے ہیں۔ فٹنی جی نے اپنے چیک پک کر کپڑے سے چہرے کو نورانی صاف کی اور اس پر پڑے۔

**غزلیں**

گھومتے رہتے ہوئے کہتے ہو کہ فرست ہی نہیں ایسا لگتا ہے جنہیں مجھ سے محبت ہی نہیں لوٹ کر آؤ گے تم شام ڈھلے افردہ ان دنوں بیاریک بازار میں قیمت ہی نہیں خوب رہتے ہو غلط کاری میں دن رات گلن ادھر کہتے ہو کہ بیچارہ میں برکت ہی نہیں اس کی عزت میں بھلا کیسے ادا ہوگا جس کے دل میں کسی انسان کی عزت ہی نہیں جس کی آنکھوں میں چکا چوند ہے پیسے کی قیمت اس کی آنکھوں میں سے پارموتی ہی نہیں

**غزلیں**

جب کہکشاں کو میں نے گلے سے لگا لیا تو جگنوؤں نے بس کے مرا دل چرا لیا اس نے دیا تھا تم زینگا کا اس لیے ہم نے ہر ایک درد کو یوسف بنا لیا گنگ و جمن سے پیار تھا تم کو بس اس لیے آجکل کو اتحاد کا پرچم بنا لیا میری آنا کا مان بھی رکھا ہے اس لیے اس جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو اپنا بدن میں سے صدموں کی ترس دم سے زندہ ہے مسلم تو از دعا میں اسے جب سے شامل کیا

**غزلیں**

محببت نے جب دل کو پاگل کیا تو انگوٹوں نے آنکھوں کو قفل کھلایا جو گھر میرا برسوں سے وہاں تھا پردوں نے اس گھر کو جنگل کیا گھنٹی چھاؤں میں کچھ راحت ملے ہری کھاس کو رب نے نکل گیا جو ساپٹوں کی اک بھیڑ تھی سامنے تو